

اہم حقائق

فعالیت کے پہلے 7 سالوں کے دوران
(31 جنوری 2014 - 31 جنوری 2021):

﴿ ٹورانٹو کے مرکز پیدائش (ٹورانٹو برتھ سینٹر [TBC]) میں 3478 مریض داخل ہوئے، اور 2608 ولادتیں ہوئیں۔

﴿ ان میں سے تقریباً ایک چوتھائی (24%) پانی میں ہونے والی پیدائش تھی۔

﴿ زچگی کے دوران ہسپتال منتقلی، یا حاملہ خواتین یا بعد میں پیدا ہونے والے بچے کے لیے مصرف ہوا:
◦ 41.6% وقت حاملہ خواتین کے لیے جو پہلی بار جنم دے رہے تھیں۔
◦ 11.9% ان حاملہ خواتین کے لیے جنہوں نے پہلے جنم دیا تھا۔


﴿ ہسپتال میں منتقلی کی سب سے عام وجوہات حمل کی سست پیش رفت، میکونیم کی موجودگی والا امینٹیٹک سیال، اور پیدائش کے مرکز میں درد سے نجات کی امداد ناکافی تھی۔

﴿ ایمبولینس کا استعمال 5.8% اندراج شدہ حاملہ خواتین یا بچے کو ہسپتال پہنچانے یا 20% تمام نقل و حمل کے لیے کیا جاتا تھا۔ دیگر نقل و حمل نجی گاڑیوں میں کی جاتی تھی۔

﴿ مجموعی طور پر سیزرین آپریشن کی شرحیں یہ تھیں:
◦ 9.2% وہ حاملہ خواتین تھیں جو پہلی بار جنم دے رہی تھیں۔
◦ 1.1% وہ حاملہ خواتین تھیں جنہوں نے پہلے جنم دیا تھا۔

محل وقوع

ٹورانٹو کا مرکز پیدائش (ٹورانٹو برتھ سینٹر [TBC])
ڈنٹس اسٹریٹ ایسٹ اور پارلیمنٹ اسٹریٹ کے
قریب واقع ہے۔



ٹور میں دلچسپی ہے؟
ہم سے رابطہ کریں!

Phone: (416) 366-8080 x 101



525 ڈنٹس اسٹریٹ ایسٹ (525 Dundas Street East)
ٹورانٹو آنٹاریو ایم 5 اے 2 بی (Toronto, ON M5A 2B6)
(416) 366-8080

www.torontobirthcentre.ca

سرکاری طور پر اہل دانی تلاش کرنے کے لیے،

آپ ملاحظہ کر سکتے/سکتے ہیں:

کالج آف مڈوائوز آف آنٹاریو کی ویب سائٹ

www.cmo.on.ca

دا ایسوسی ایشن آف آنٹاریو مڈوائوز کی ویب سائٹ

www.ontariomidwives.ca

(416) 425-9974



ٹورانٹو کا مرکز پیدائش Urdu

ٹورانٹو کے مرکز پیدائش (ٹورانٹو برتھ سینٹر [TBC]) کا اولین مقصد ایک ایسی جگہ بنانا ہے جہاں حاملہ افراد، خاندان اور علاقائی افراد ثقافتی طور پر محفوظ نگہداشت برائے پیدائش تک رسائی حاصل کر سکیں۔



ٹورانٹو کا مرکز برائے پیدائش (ٹورانٹو برتھ سینٹر [TBC]) ایک نظر میں

ٹورانٹو کا مرکز پیدائش (ٹورانٹو برتھ سینٹر [TBC]) ایک خوبصورت جگہ ہے، جس کا مقصد دائیوں کی مشاورت سے بنایا گیا ہے تاکہ ایک خوش آئند، ثقافتی طور پر محفوظ جگہ فراہم کی جا سکے جو ایک مقامی ڈھانچے کے اندر کام کرتی ہے*۔

پیدائش کے تین کمرے ہیں، جو ایک نجی، گھر جیسی ترتیب فراہم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ معاون لوگوں کے جمع ہونے کے لیے بڑے کمرے ہیں۔ ٹورانٹو کا مرکز پیدائش (ٹورانٹو برتھ سینٹر [TBC]) ان لوگوں کی تعداد کو محدود نہیں کرتا جو پیدائش میں شرکت کر سکتے ہیں (سوائے وبائی مرض کے دوران)۔ ٹورانٹو کے مرکز پیدائش (ٹورانٹو برتھ سینٹر [TBC]) میں کھانا تیار کرنے کے لیے ایک مکمل باورچی خانہ ہے۔ پیدائش کا مرکز دن میں 24 گھنٹے، سال میں 365 دن کھلا رہتا ہے۔

میری ولادت دینے کے وقت کون موجود ہو سکتا ہے؟

﴿ مستند دائیاں (عام طور پر دو)

﴿ طالب علم دائیاں (براہ کرم اپنی دائیوں کی ٹیم سے بات کریں)

﴿ کوئی بھی معاون لوگ جو آپ اپنے ساتھ رہنا چاہتی ہیں (مددگار عورت، بزرگ، معلومات رکھنے والے)

﴿ خاندان کا کوئی اضافی افراد (بشمول بچے)

*ٹورانٹو کے مرکز پیدائش (ٹورانٹو برتھ سینٹر [TBC]) کے مقامی ڈھانچے کے بارے میں مزید معلومات کے لیے براہ کرم مقامی ڈھانچے کا پمفلٹ (Indigenous Framework Pamphlet) دیکھیں۔

مرکز برائے پیدائش کیا ہے؟

﴿ مراکز برائے پیدائش منظم، صحت کی نگہداشت کی علاقائی جگہیں ہیں جو دائیوں کی زیر نگہداشت ہسپتال سے باہر بچے کو جنم دینے کے لیے ایک آرام دہ، محفوظ جگہ فراہم کرتی ہیں۔

﴿ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ پیدائشی مراکز کم خطرے والے حمل والی خواتین کے لیے اپنے بچے پیدا کرنے کے لیے محفوظ جگہ ہیں۔

﴿ ٹورانٹو کے مرکز پیدائش (ٹورانٹو برتھ سینٹر [TBC]) واک ان (پیشگی اندراج/ملاقات کی اجازت کے بغیر آنے) کی جگہ نہیں ہے۔

﴿ ٹورانٹو کا مرکز پیدائش (ٹورانٹو برتھ سینٹر [TBC]) لائسنس یافتہ ہے اور وزارت صحت اور طویل مدتی نگہداشت کے ذریعے رقوم حاصل کرتا ہے۔



ٹورانٹو کا مرکز پیدائش (ٹورانٹو برتھ سینٹر [TBC]) کون استعمال کر سکتا ہے؟

آپ ٹورانٹو کے مرکز پیدائش (ٹورانٹو برتھ سینٹر [TBC]) میں اپنا بچہ پیدا کرنے کا منصوبہ بنا سکتی ہیں اگر آپ:

﴿ ایک مستند دائی کی زیر نگہداشت ہیں جو ٹورانٹو کے مرکز پیدائش (ٹورانٹو برتھ سینٹر [TBC]) سے وابستہ ہے

﴿ ایک نیچے کی جانب سر والے بچے کے ساتھ حمل میں پوری مدت پر ہوں

﴿ اہلیت کے معیار پر پورا اترتی ہیں – اپنی دائی سے بات کریں

اگر پیدائش کے منصوبے میں تبدیلیاں ہوں تو کیا ہوگا؟

پیدائش کے مراکز کم خطرے، معمولی مداخلت کے ساتھ غیر پیچیدہ ولادت کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔

ٹورانٹو کا مرکز پیدائش (ٹورانٹو برتھ سینٹر [TBC]) دائیوں کو عام ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے آلات تک رسائی فراہم کرتا ہے، بشمول آکسیجن، جراثیم سے پاک آلات، اور خون کو روکنے کے لیے ادویات۔

ٹورانٹو کے مرکز پیدائش (ٹورانٹو برتھ سینٹر [TBC]) میں کوئی ڈاکٹر یا نرسیں نہیں ہیں اور مداخلت جیسے ایپیڈورلز (مصنوعی بے حسی/بے ہوشی کی دوا)، حمل کی افزائش کے لیے دوائیں، اور ہسپتال لے جانے پر سیزرین آپریشن میسر ہیں۔